

22nd Meeting of the Working Mechanism for Consultation & Coordination on India-China Border Affairs

June 25, 2021

بھارت چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطہ کیلئے ورکنگ میکانزم کا 22 واں اجلاس

25 جون، 2021

1- بھارت- چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطے کیلئے ورکنگ میکانزم (ڈبلیو ایم سی سی) کا 22 واں اجلاس 25 جون 2021 کو منعقد ہوا۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سکرپٹری (مشرقی ایشیاء) نے کی، جبکہ چینی وفد کی قیادت چینی وزارت خارجہ کے ما تحت ہاؤنڈری اور سمندری امور شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کی۔

2- دونوں فریقین نے بھارت- چین سرحدی علاقوں کے مغربی سیکٹر میں لائن آف ایکچول کنٹرول (ایل اے سی) کے صورتحال پر کھل کر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقین نے ستمبر 2020 میں دونوں وزرائے خارجہ کے مابین طے پانے والے معاہدے کو مدنظر رکھتے ہوئے مشرقی لداخ میں ایل اے سی کے بقیہ امور کی جلد حل تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ اس سلسلے میں، دونوں فریقین نے سفارتی اور فوجی میکانزم کے ذریعہ بات چیت اور ڈائلاگ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا، تاکہ تمام متنازعہ علاقوں سے مکمل طور پر پیچھے ہٹنے کے لئے باہمی قابل قبول حل تک پہنچا جا سکے، اور باہمی تعلقات میں پیشرفت کے لئے امن اور سکون کی مکمل بحالی کو یقینی بنایا جاسکے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ عبوری طور پر دونوں فریقوں کو زمینی سطح پر استحکام برقرار رکھنا چاہئے، اور کسی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کرنا چاہئے۔

3- دونوں فریقین نے موجودہ دو طرفہ معاہدوں اور پروٹوکول کے مطابق مغربی سیکٹر میں ایل اے سی پر تمام متنازعہ علاقوں سے مکمل طور پر پیچھے ہٹنے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سینیئر کمانڈروں کی میٹنگ کا اگلا (12واں) دور جلد منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔

نئی دہلی

25 جون، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.